



سوال

(165) امانت رکھنے والے کو مال سے سرمایہ کاری کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

کسی شخص نے میرے پاس نقد رقم بطور امانت رکھی ہے میں نے اس رقم سے فائدہ حاصل کرنا چاہا اور اس سے سرمایہ کاری کی اور جب صاحب مال آیا تو اسے اس کا پورا مال واپس دے دیا اور میں نے اس مال سے جو فائدہ اٹھایا تھا، وہ اس نے بتلایا کیا میرا یہ تصرف جائز تھا یا نہیں؟ (قلم سبب الریاض)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاته!

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد!

جب کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھے تو آپ اس کی اجازت کے بغیر اس رقم میں تصرف نہیں کر سکتے۔۔۔

پھر جب آپ نے اس کی اجازت کے بغیر تصرف کر لیا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس سے معذرت کر لیں اگر وہ معذرت قبول کر لے یا معافی دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے مال کا نفع اسے دینا یا اس کے نصف یا کم و بیش پر سمجھوتہ کر لیں اور مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے مگر ایسی نہ ہو جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا دے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ دارالسلام

ج 1

محدث فتویٰ